

تعمیر کردار کی ضرورت و اہمیت

شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خاں صاحب مدظلہ

صدر: وفاق المدارس العربیہ پاکستان

اللہ جل شانہ نے مختلف اعمال سالانہ میں مختلف تاثیرات اور مختلف فوائد رکھے ہیں، مثلاً نماز جو دین اسلام کا اہم رکن ہے، اس کی ایک تاثیر یہ ہے کہ نماز کی آداب کے ساتھ پابندی کرنے والا، منکر اور فواحش سے محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر﴾ (بے شک نماز بے حیائی کے کام اور برائی سے روکتی ہے)۔ اسی طرح صدقہ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ اللہ کے غضب اور غمے کو خنڈا کرتا ہے اور آفتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ والدین کی اطاعت اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، عمر میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ غرض کہ مختلف نیک اعمال کے فوائد و ثمرات ہیں..... اسی طرح اعمال سیدہ اور گناہوں کی جزاء اور نتائج بھی مختلف ہوتے ہیں، بعض گناہ، فقر و تنگدستی کا ذریعہ بنتے ہیں، بعض مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، بعض عمر میں بے برکتی کا ذریعہ بنتے ہیں۔

اعمال صالحہ اختیار کرنا اور برے اعمال سے بچنے کا اہتمام کرنا ویسے تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے لیکن جو لوگ دین کے داعی ہیں اور علماء کے زمرے میں آتے ہیں، ان کو اپنے اعمال، اپنے کردار اور اپنی زندگی کی تعمیر کی بطور خاص فکر کرنی چاہئے، وہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نسبت رکھتے ہیں اور ان کا الہی تعلیمات اور علوم نبویہ کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، اس لئے اس کا تقاضہ ہے کہ وہ باعمل زندگی گزارنے کا اہتمام کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں، کردار کی تعمیر ہی سے، انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہؓ جب آپ کے بعد دنیا کے مختلف خطوں میں نکلے تو دنیا کے ایک بڑے حصے نے، ان کے کردار، ان کے اعمال اور ان کی مؤمنانہ معاشرت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تربیت حاصل کی تھی اور زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ اور طرز سیکھا تھا، اس پر انہوں نے کسی

سے سمجھوتہ نہیں کیا اور وہ کسی بھی دوسری تہذیب اور تمدن سے متاثر نہیں ہوئے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب شاہی دربار میں کھانا کھاتے ہوئے ان سے لقمہ گرا، انہوں نے لقمہ اٹھا کر صاف کیا اور کھایا، بعض حضرات نے ان کو اس عمل سے منع کیا، تو انہوں نے جواب دیا:..... "انترک سنۃ نبینا لہولاء الحمقاء؟" یعنی "ہم اپنے نبی کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دیں گے.....؟" یہ درحقیقت ان حضرات کا یقین کامل اور ایمان خالص تھا اور ان کے کردار کی مضبوطی اور استحکام تھا کہ بہت کم اور مختصر عرصے میں دین اسلام کا پھر پیرا دنیا کے ایک بڑے حصے پر لہرانے لگا اور اقوام عالم نے اسلام تیزی کے ساتھ قبول کرنا شروع کیا۔

آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمانی کردار کی تعمیر کی طرف توجہ کی جائے، اعمال صالحہ کا اہتمام کیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، خاص کر دین کے داعیوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے وارث علماء کو اپنے کردار اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہئے۔ اس سے ان کے حصے کا بہت سارا کام از خود آسان ہو جائے گا۔ عام لوگوں کا ایک رجحان یہ بنا ہے کہ ان کے اندر خود عملی لحاظ سے کتنی کمزوری کیوں نہ ہو اور وہ بے عملی یا بد عملی کا شکار کیوں نہ ہوں، تاہم وہ دین کے داعیوں اور علماء سے بلند اخلاق اور بلند کردار کی توقع رکھتے ہیں، بصورت دیگر ان کی بات موثر نہیں رہتی!

اللہ جل شانہ ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین.....

☆.....☆.....☆

دماغ افروز

قوت حافظہ اور دماغ کیلئے زبردست اکسیر

دماغ افروز ایسے اصحاب کیلئے جو دماغی محنت کرتے ہوں، بہترین نعمت ہے

دماغ افروز دماغ کی خشکی، سر پھرانا، ذہنی بیجان اور بے خوابی دور کرنے کی جادو اثر دوا ہے۔

دماغ افروز دماغ کی تمام قوتوں میں ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔

دماغ افروز دماغ کی تمام قوتوں میں ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔

دماغ افروز بھوک کو چکا کر قوت ہاضمہ درست کر کے غذا کو جزو بدن بناتا ہے۔

دماغ افروز زندگی کیلئے کیسے ہے صحت کیلئے اکسیر ہے اور دماغ کیلئے نعمت ہے۔

اگر آپ عینک اتارنے کے خواہشمند ہیں تو یہی کورس 2 ماہ کیجئے

پچھلے کورس کیلئے اس طرح پچھلے کورس کیلئے اس طرح

اگر آپ کی قوت حافظہ اور ذہن اچھی طرح کام نہیں کرتا تو بہترین شے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ..... دماغ افروز ہے۔

حکیم حافظہ سید محمد احمد لاہور 042-38477326 - 0332-8477326